

Published simultaneously from HYDERABAD & BANGALORE

روزنامہ

# سیاسات

The Siasat Daily

दि सियासत दैली

Wednesday, 13th July 2011

## ”باطنی سکون۔ خود شناسی“ پر سہ روزہ ورکشاپ

میں اسلامک وائس بنگلور نے ایک سہ روزہ ورکشاپ دارالسلام بنگلور میں 15 تا 17 جولائی 2011ء منعقد کیا ہے۔ ورکشاپ کے کورس کو جناب اے ڈبلیو سعادت اللہ خان ایڈیٹر اسلامک وائس کی نگرانی میں ترتیب دیا گیا ہے جو قرآن وحدیث کی روشنی میں عملی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے پر مبنی کا کمال احاطہ کرتا ہے۔ کورس فیس صرف 500 روپے رکھی گئی ہے جس میں کورس میٹریل، چائے اور ظہرانے کے اخراجات بھی شامل ہیں۔ رجسٹریشن کے لئے فون نمبرات 9845043805 اور 41126165 پر مطلع کیا جاسکتا ہے۔

ساتھ بروئے کار لانا ہی انسانیت کی معراج ہے۔ ہماری جسمانی، جذباتی، روحانی اور دماغی صحت کا دارومدار تو انہیں قدرت پر ہے اور اس اہل حقیقت سے کوئی فرار اختیار نہیں کر سکتا۔ ہم چاہے کتنے ہی مصنوعی طریقے اختیار کریں، مگر سکون قلب حاصل نہیں کر سکتے اور سکون دل اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب آپ کے مقاصد نیک ہوں۔ اگر آپ جذباتی، روحانی اور دماغی طور پر صحت مند نہ ہوں تو جسمانی طور پر بھی صحت مند نہیں رہ پاتے۔ اگر ہم اپنے رویہ کو بدل لیں تو ہم میں اور ہمارے ساتھ پیش آنے والے حالات میں زبردست تبدیلی آ سکتی ہے۔ اس سلسلے

بنگلور۔ 12 جولائی (راست) دنیا کو پانے میں انسان اتنا کھو گیا ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو فراموش کر گیا ہے۔ روز مرہ کے معاملات میں وہ اس قدر الجھ کر رہ گیا ہے کہ اسے خود اپنی خوبیوں اور خامیوں کا اندازہ نہیں رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اپنی صفات اور خوبی صلاحیتوں سے خود آگاہ نہیں ہوئے وہ نہ صرف خود غمتوں سے فیضیاب نہیں ہو پاتے، بلکہ اپنی ذات سے دوسروں کو بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ اسلام تو مکمل دین ہے جو انسانوں کی زندگی کے ہر محاذ پر رہنمائی کرتا ہے۔ درحقیقت خالق کائنات کی عطا کردہ صلاحیتوں اور قوتوں کو پورے سن و کمال کے